

## Visit of Minister of State for External Affairs Shri V. Muraleedharan to the Republic of the Sudan and Republic of South Sudan (October 18-22, 2021)

October 16, 2021

وزیر مملکت برائے امور خارجہ جناب وی مرلی دھرن کا جمہوریہ سوڈان اور جمہوریہ جنوبی سوڈان کا دورہ (18-22 اکتوبر، 2021)

16 اکتوبر، 2021

وزیر مملکت برائے امور خارجہ اور پارلیمانی امور جناب وی مرلی دھرن 18 سے 19 اکتوبر 2021 کو جمہوریہ سوڈان اور 20 سے 22 اکتوبر 2021 کو جمہوریہ جنوبی سوڈان کا سرکاری دورہ کریں گے۔ دونوں ممالک کے لئے یہ ان کا پہلا دورہ ہوگا۔

2- سوڈان کے اپنے دورے کے دوران، وزیر مملکت برائے امور خارجہ سوڈانی وزیر خارجہ ڈاکٹر مریم الصادق المہدی اور دیگر معززین کے ساتھ باہمی دلچسپی کے دوطرفہ، علاقائی اور بین الاقوامی مسائل پر بات چیت کریں گے۔ وہ سوڈان کی خود مختار کونسل کے صدر عزت مآب فرسٹ لیفٹیننٹ جنرل عبد الفتاح عبد الرحمن البرہان اور وزیر اعظم عزت مآب عبداللہ حمدوک سے ملاقات کریں گے۔ وزیر مملکت اپنے دورے کے دوران سوڈان میں ہندوستانی کمیونٹی کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔

3- جنوبی سوڈان میں، وزیر مملکت جنوبی سوڈان کے صدر عزت مآب جنرل سالوا کیر میاردیت سے ملاقات کریں گے۔ اس کے علاوہ وزیر مملکت وزیر خارجہ اور بین الاقوامی تعاون کے وزیر جناب مائیک آئی ڈینگ سے ملاقات کرنے کے ساتھ ساتھ عبوری قومی قانون ساز اسمبلی کے اسپیکر محترمہ جیما نونو کومبا اور دیگر معززین سے بھی ملاقات کریں گے۔ وہ جوبا میں ہندوستانی کمیونٹی سے خطاب کریں گے اور وہاں ہندوستانی تاجروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ وزیر مملکت جوبا میں اقوام متحدہ کے مشن برائے جنوبی سوڈان (یو این ایم آئی ایس ایس) کے ایک اسپتال کا دورہ بھی کریں گے جو کہ بھارتی فوج کے ڈاکٹروں کے زیر انتظام ہے۔

4- بھارت کے سوڈان اور جنوبی سوڈان کے ساتھ تعلقات گرمجوشی، دوستانہ اور خوشگوار ماحول سے سرشار رہے ہیں۔ متعدد ہندوستانی کمپنیاں دونوں ممالک کے مختلف شعبوں میں کام کر رہی ہیں۔

گزشتہ کئی برسوں سے، بھارت سوڈان اور جنوبی سوڈان کے نوجوانوں کی صلاحیت سازی میں آگے رہا ہے۔ دونوں ممالک کے طلباء کی ایک بڑی تعداد ہندوستان کے مختلف اداروں میں تعلیم حاصل کر رہی ہے۔ ہندوستان کے سوڈان اور جنوبی سوڈان کے ساتھ ثقافتی اور عوام سے عوام کے درمیان گہرے تعلقات ہیں۔ اس دورے سے دونوں ممالک کے ساتھ ہمارے تعلقات کو ایک نئی رفتار ملنے کا امکان ہے۔

نئی دہلی

16 اکتوبر، 2021

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.